

INTERMEDIATE PART-II (12th CLASS)

آؤٹ لائنز آف ہوم اکنامکس پرچہ - دوسرا
(نیو سکیم)

TIME ALLOWED: 2.40 Hours

SUBJECTIVE حصہ انشائیہ

وقت = 2.40 گھنٹے

MAXIMUM MARKS: 68

کل نمبر = 68

نوٹ - جوابی کاپی پر وہی سوال نمبر اور جزو نمبر درج کیجیے جو کہ سوالیہ پرچے میں درج ہے۔
NOTE: - Write same question number and its part number on answer book, as given in the question paper.

SECTION-I حصہ اول

2. Attempt any eight parts.

16 = 2 x 8

سوال نمبر 2۔ کوئی سے آٹھ اجزاء کے جوابات تحریر کیجیے۔

- (i) Write chemical composition of Carbohydrates. کاربوہائیڈریٹس کی ساخت بیان کیجیے۔
- (ii) Every fatty diet is composed of how many parts? Write names. ہر روغنی غذا کتنے اجزاء کا مرکب ہے؟ نام لکھیں۔
- (iii) How many food groups are there? غذا کے بنیادی گروہ کتنے ہیں؟
- (iv) Write down names of four non-essential amino acids. چار غیر ضروری امائنو ترشوں کے نام لکھیں۔
- (v) Which are the factors that affect upon the selection of Balanced diet? متوازن غذا کے انتخاب پر اثر انداز ہونے والے عوامل کون سے ہیں؟
- (vi) Write down the types of Protein. لحمیات (پروٹین) کی اقسام تحریر کیجیے۔
- (vii) What are the types of Fats? روغنیات کی اقسام کون سی ہیں؟
- (viii) Write down a note on Patient Diet. مریض کی غذا پر نوٹ لکھیے۔
- (ix) Write down four basic functions of water. پانی کے چار بنیادی کام تحریر کیجیے۔
- (x) Define Calorie. حرارہ کسے کہتے ہیں؟
- (xi) What are some general characteristics of Vitamins? حیاتیات کے چند عمومی خواص کون سے ہیں؟
- (xii) Define Food and Nutrition. غذا اور غذائیت کی تعریف کریں۔

3. Attempt any eight parts.

16 = 2 x 8

سوال نمبر 3۔ کوئی سے آٹھ اجزاء کے جوابات تحریر کیجیے۔

- (i) Which effects appear in our body due to the deficiency of Niacin? نیا سین کی کمی سے ہمارے جسم پر کون سے اثرات مرتب ہوتے ہیں؟
- (ii) Write down the functions of Vitamin A. حیاتیات "الف" کے افعال تحریر کیجیے۔
- (iii) Write a note on Buffet Food Service. بوفے طرز سے کھانا پیش کرنے پر نوٹ لکھیے۔
- (iv) Write down the procedure of getting skill to operate a sewing machine. سلائی مشین پر مہارت حاصل کرنے کا طریقہ لکھیے۔
- (v) Describe four main functions of Fats. روغنیات کے چار اہم افعال بیان کریں۔
- (vi) What is meant by Menu Planning? فہرست طعام سے کیا مراد ہے؟
- (vii) What is the identification of Fresh Meat? تازہ گوشت کی کیا پہچان ہے؟
- (viii) Write main sources of Carbohydrates. کاربوہائیڈریٹس کے اہم ذرائع بیان کریں۔
- (ix) Why animal protein is called complete protein? حیوانی پروٹین کو مکمل پروٹین کیوں کہا جاتا ہے؟
- (x) What are natural fibres? Write names. قدرتی ریشے کون سے ہیں؟ نام لکھیں۔
- (xi) Write main objectives of cooking food. خوراک پکانے کے اہم مقاصد لکھیں۔
- (xii) Write any two sewing machine's troubles and their solution. سلائی مشین میں ہونے والی کوئی دو خرابیاں اور ان کا حل لکھیں۔

4. Attempt any six parts.**12 = 2 x 6****سوال نمبر 4۔ کوئی سے چھ اجزاء کے جوابات تحریر کیجیے۔**

- (i) What is Grain Line? (i) گرین لائن (Grain Line) کسے کہتے ہیں؟
- (ii) Write procedure of taking care of sewing machine. (ii) سلائی مشین کی حفاظت کا طریقہ لکھیں۔
- (iii) How will you take care of woollen clothes? (iii) اونٹنی کپڑوں کی دیکھ بھال آپ کیسے کریں گی؟
- (iv) Write down necessary equipments for ironing. (iv) استری کے لیے ضروری آلات تحریر کیجیے۔
- (v) Twill weave is appropriate for what type of fabrics? (v) ٹویل بنائی کن خاص کپڑوں کے لیے موزوں ہے؟
- (vi) What points would you keep in mind while making a good fitted dress? (vi) اچھی فٹنگ کے لباس بنانے کے لیے کن باتوں کا خیال رکھنا ضروری ہے؟
- (vii) How will you plan a wardrobe for young children? (vii) چھوٹے بچوں کے کپڑوں کی منصوبہ بندی آپ کیسے کریں گے؟
- (viii) Write a short note on Nylon fibres. (viii) نائیلون کے ریشے پر مختصر نوٹ لکھیے۔
- (ix) What do you know about Tracing Wheel? (ix) آپ ٹریسنگ ویل کے بارے میں کیا جانتی ہیں؟

SECTION-II حصہ دوم**NOTE: - Attempt any three questions.****24 = 8 x 3****نوٹ۔ کوئی سے تین سوالات کے جوابات تحریر کیجیے۔**

5. Write down steps of making thread from cotton fibres. 5۔ سوتی ریشے سے دھاگہ بنانے کے مراحل بیان کریں۔
6. What are water soluble vitamins? Explain in detail any two vitamins of "B" Complex. 6۔ پانی میں حل پذیر حیاتین کے نام لکھیں۔ حیاتین "بی کمپلکس" کے دو اہم حیاتین تفصیل سے لکھیں۔
7. Write down main sources of proteins. Also write down its functions and diseases caused due to its deficiency. 7۔ پروٹین کے اہم ذرائع بیان کیجیے نیز اس کے کام اور کمی سے پیدا ہونے والے امراض بھی تحریر کیجیے۔
8. Why is food cooked? Write different methods of cooking food in detail. 8۔ کھانا کیوں پکایا جاتا ہے؟ کھانا پکانے کے مختلف طریقے تفصیل سے بیان کریں۔
9. What is meant by Personal Grooming? Write down its importance in detail. 9۔ ذاتی زیبائش سے کیا مراد ہے؟ اس کی اہمیت تفصیل سے لکھیں۔

OUTLINES OF HOME ECONOMICS PAPER-II پرچہ - دوسرا (نیو سکیم)

TIME ALLOWED: 20 Minutes

OBJECTIVE حصہ معروضی

وقت = 20 منٹ

MAXIMUM MARKS: 17

کل نمبر = 17

نوٹ۔ ہر سوال کے چار ممکنہ جوابات A، B، C اور D دیئے گئے ہیں۔ جوابی کاپی پر ہر سوال کے سامنے دیئے گئے دائروں میں سے درست جواب کے مطابق متعلقہ دائرہ کو مار کر یا پین سے بھر دیجئے۔ ایک سے زیادہ دائروں کو پُر کرنے یا کاٹ کر پُر کرنے کی صورت میں مذکورہ جواب غلط تصور ہوگا۔ دائروں کو پُر نہ کرنے کی صورت میں کوئی نمبر نہیں دیا جائے گا۔ اس سوالیہ پرچہ پر

سوالات ہرگز حل نہ کریں۔ Note: you have four choices for each objective type question as A, B, C and D. The choice which you think is correct, fill that bubble in front of that question number. On bubble sheet, use marker or pen to fill the bubbles. Cutting or filling two or more bubbles will result in zero mark in that question. Attempt as many questions as given in objective type question paper and leave others blank. No credit will be awarded in case BUBBLES are not filled. Do not solve questions on this sheet of OBJECTIVE PAPER.

Q.No.1

سوال نمبر 1۔

- (1) Part of sewing machine pushes fabric forward while stitching: سلائی مشین کا وہ حصہ جو سلائی کے دوران کپڑے کو آگے دھکیلتا ہے۔
(A) Lever لیور (B) Feed dog دندائے (C) Screw پیچ (D) Needle سوئی
- (2) The best sources of Vitamins and Minerals are: حیاتیات اور نمکیات کے بہترین ماخذ ہیں۔
(A) Pulses دالیں (B) Eggs انڈے (C) Meat گوشت (D) Fresh fruits and vegetables تازہ پھل اور سبزییاں
- (3) The chemical name of Niacin is: نایاسین کا کیمیائی نام ہے۔
(A) Sulphuric acid سلفیورک ایسڈ (B) Ascorbic acid اسکاربک ایسڈ (C) Nicotinic acid نکوٹینک ایسڈ (D) Acetic acid اسیک ایسڈ
- (4) The factor to acquire balanced diet is: متوازن خوراک کے حصول کا عامل ہے۔
(A) Physical condition جسمانی کیفیت (B) Knowledge of food groups غذائی گروہ کا علم (C) Hard work سخت محنت (D) Traditional dietary habits روایتی غذائی عادات
- (5) While cutting the cloth diagonally its angle should be: کپڑے کی ترچھان کاٹنے کے لیے ضروری ہے کہ اس کا زاویہ ہو۔
(A) 45° (B) 90° (C) 360° (D) 180°
- (6) _____ balances acidity and basicity in blood. خون میں تیزابیت اور اساسیت کو متوازن رکھتا ہے۔
(A) Sulphur سلفر (B) Iodine آئیوڈین (C) Phosphorus فاسفورس (D) Magnesium میگنیشیم
- (7) Food used to fill the stomach is called: ایسی غذا جو پیٹ بھرنے کے لیے کھاتے ہیں۔
(A) Basic diet بنیادی خوراک (B) Tasty diet مزیدار غذا (C) Unimportant diet غیر ضروری غذا (D) Obesity creative diet موٹاپا پیدا کرنے والی غذا
- (8) For absorption of Iron, _____ is necessary. فولاد کے انجذاب کے لیے ضروری ہے۔
(A) Protein پروٹین (B) Vitamin C حیاتیات ج (C) Vitamin D وٹامن ڈی (D) Fats چکنائی
- (9) Rickets and osteomalacia diseases are caused due to the deficiency of: ریکٹس اور آسٹیو ملیشیا کا مرض _____ کی کمی سے لاحق ہوتا ہے۔
(A) Vitamin A وٹامن اے (B) Vitamin D وٹامن ڈی (C) Vitamin C وٹامن سی (D) Vitamin E وٹامن ای
- (10) _____ paper should be used for drafting. ڈرافٹنگ بنانے کے لیے _____ رنگ کا کاغذ استعمال کرنا چاہیے۔
(A) White سفید (B) Blue نیلا (C) Brown خاکی (D) Black کالا
- (11) Satin weave is suitable for: سائن بنائی _____ کے لیے ضروری ہے۔
(A) Cotton clothes سوئی کپڑوں (B) Woollen clothes اوننی کپڑوں (C) Synthetic fabrics کیمیائی ریشموں سے بنے کپڑوں (D) Silky fabrics ریشمی کپڑوں
- (12) If antibodies are not produced in the body then: اگر غیر اجسام جسم میں پیدا نہ ہوں تو:۔
(A) Anemia occurs اینیمیا ہو جاتا ہے (B) Weakness occurs کمزوری ہو جاتی ہے (C) Resistance power develops قوت مدافعت پیدا ہوتی ہے (D) Resistance power decreases قوت مدافعت کم ہو جاتی ہے
- (13) _____ disease is due to deficiency of Niacin. نایاسین کی کمی سے _____ مرض لاحق ہوتا ہے۔
(A) Beriberi بیریری (B) Pellagra پیلگرا (C) Scurvy سکروی (D) Edema ایڈیما
- (14) Vitamin _____ is essential for the coagulation of blood. خون کے انجماد کے لیے وٹامن _____ ضروری ہے۔
(A) B بی (B) E ای (C) K کے (D) C سی
- (15) The deficiency of vitamin C is the cause of disease: وٹامن "ج" کی کمی سے _____ مرض لاحق ہوتا ہے۔
(A) Night blindness شب کوری (B) Goiter گھوڑ (C) Beriberi بیریری (D) Scurvy سکروی
- (16) The name of linen plant is: لینن کے پودے کو _____ کہتے ہیں۔
(A) Egg plant ایگ پلانٹ (B) Cotton plant کاٹن پلانٹ (C) Silk plant سلک پلانٹ (D) Flax plant فلکس پلانٹ
- (17) The main source of Vitamin D is: حیاتیات "د" کا سب سے بڑا ذریعہ ہے۔
(A) Fruits پھل (B) Cereals اناج (C) Salts نمکیات (D) Sunrays سورج کی شعاعیں

BOARD OF INTERMEDIATE AND SECONDARY EDUCATION, MULTAN
OBJECTIVE KEY FOR INTERMEDEAT ANNUAL/SUPPLY EXAMINATION, 2019

Name of Subject: out lines of Home Economics Session: 2019 A



Q.Nos	Paper Code	Paper Code	Paper Code	Paper Code
	4211			
1	B			
2	D			
3	C			
4	B			
5	B			
6	C			
7	A			
8	B			
9	B			
10	C			
11	D			
12	D			
13	B			
14	C			
15	D			
16	D			
17	D			
18				
19				
20				

سرٹیفکیٹ بابت صحیح سوالیہ پرچہ امارنگ Key

ہم نے مضمون اؤٹ لائنز آف ہوم ایکنامکس پرچہ دوسرا گروپ سیکیم بینو انٹر سالانہ امتحان 2019ء کا سوالیہ پرچہ انشائیہ و معروضی (Subjective & Objective) کو بنظر عین چیک کر لیا ہے یہ پرچہ Syllabus کے عین مطابق Set کیا گیا ہے۔ اس سوالیہ پرچہ میں کسی قسم کی کوئی غلطی نہ ہے۔ ہم نے سوالیہ پرچہ کا اردو اور انگریزی Version بھی چیک کر لیا ہے۔ یہ Version آپس میں مطابقت رکھتے ہیں۔ نیز اس پرچہ کی معروضی (MCQs) Key کی بابت تصدیق کی جاتی ہے کہ اس میں بھی کسی قسم کی کوئی غلطی نہ ہے۔ مزید یہ کہ ہم نے Key بنانے سے متعلق دفتر کی جانب سے تیار کردہ ہدایات وصول کر کے ان کا بغور مطالعہ کر لیا ہے اور ان کی روشنی میں Key بنائی ہے۔ نیز سب ایگزامینرز کیلئے تفصیلی مارکنگ ہدایات / مارکنگ سکیم / Rubrics بھی تیار کر دی گئی ہیں۔

Prepared & Checked By:

Dated: 08.05.19

S.#	Name	Designation	Institution	Mobile No	Signature
1	Mrs. Poonam Khurram	Lecturer	Gout. College of Home Economics Multan	03336054971	
2	Mrs. Tayyab Tasleem	"	"	0331-7040635	
3					